

# Test your breath

## Why carbon monoxide screening matters

Carbon monoxide (CO) is a poisonous gas which you can't see or smell but which is dangerous to you and your baby.

Exposure can prevent oxygen reaching your baby, slow its growth and development, and can result in miscarriage, stillbirth and sudden infant death.

Exposure can be measured through a quick and simple breath test provided by your midwife. The test will give you a number which measures the amount of carbon monoxide in parts per million (PPM).



**Your recent level of exposure to carbon monoxide is low.**

*This shows little exposure to carbon monoxide in the last 24-48 hours.*



**You have had some recent exposure to carbon monoxide.**

*This suggests you have had recent exposure to carbon monoxide and this may be of concern.*

### Exposure

Exposure to carbon monoxide is usually from one of three ways:

- Cigarette smoke
- Faulty or poorly ventilated cooking or heating appliances (this includes gas, coal, wood and paraffin appliances)
- Faulty car exhausts

**If you or anyone in your home smokes, this is the most likely explanation for the high reading.**

---

Reducing your exposure to cigarette smoke is the most important thing you can do for you and your baby's health.

This may be by quitting smoking yourself or reducing your exposure from others, by asking smokers not to smoke in the home, car or in front of you.

Once you stop, the carbon monoxide clears from your bloodstream and that of your baby, allowing a good flow of oxygen to support their growth and development.

Your midwife can discuss options to help you, including referring you for help to stop smoking. To find out more about the free support available, call the NHS Smokefree helpline on 0300 123 1044 (minicom 0300 123 1014).

Or visit the Smokefree website at [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk)

**If you are not usually exposed to cigarette smoke, but you have a reading of 4 or more, you may have been exposed to carbon monoxide through faulty heating or cooking appliances.**

---

We strongly recommend that you get expert help from the National Gas Emergency Service Line 0800 111 999 or go to [cadentgas.com/emergencies/smell-gas](http://cadentgas.com/emergencies/smell-gas)

It is important to check that your heating and cooking appliances are safely installed. You may wish to buy a carbon monoxide alarm that will detect low levels of carbon monoxide in your home.

**Produced by the Smoking in Pregnancy Challenge Group**

To get free week-by-week pregnancy tips you can trust from NHS experts visit [www.nhs.uk/start4life](http://www.nhs.uk/start4life)

*Smoking in pregnancy  
challenge group* ●

# Тествайте дъха си

## Защо въглеродно-оксидния скрининг си струва

Въглеродният оксид (CO) е отровен газ, който не може нито да се види, нито да се померише, но е опасен за Вас и Вашето бебе.

Излагането може да попречи на кислорода да достигне до Вашето бебе, да забави растежа и развитието му, освен това може да доведе до спонтанен аборт, преждевременно раждане и внезапна смърт на новороденото.

Излагането може да бъде измерено чрез бърз и лесен тест на дъха, предоставен Ви от Вашата акушерка по време на рутинна предродилна консултация. Не се колебайте да поискате въглеродно-оксиден скрининг от Вашата акушерка. Тестът ще ви даде число, което измерва количеството на въглероден оксид в части на милион (PPM).



Текущото Ви ниво на излагане на въглероден оксид е ниско.

0-3 PPM показва ниско излагане на въглероден оксид през последните 24-48 часа.



Скоро сте били изложени на въглероден оксид.

4+ PPM скоро сте били изложени на въглероден оксид и това е за беспокойство.

## Излагане

Излагането на въглероден оксид става по един от трите начина:

- цигарен дим
- неправилно или лошо вентилирани уреди за готвене или отопление (това включва уреди на газ, въглища, дърва и парафин)
- дефектни ауспусци

## Ако Вие или някой в дома Ви пуши, това е най-вероятното обяснение за високите стойности.

Намаляването на излагането на цигарен дим е най-малкото нещо, което можете да направите за Вашето здраве и това на Вашето бебе. Това може да се постигне като сами откажете цигарите или намалите излагането си на чужд цигарен дим, молейки пушачите да не пушат в дома Ви, в колата или пред Вас. След като спрете да пушите, въглеродният оксид се изчиства от Вашия кръвен поток и от този на бебето, което позволява на потока кислород да поддържа растежа и развитието на бебето.

Можете да обсъждате с Вашата акушерка възможностите за помощ, включително препоръка на терапия за спиране на тютюнопушенето. За да разберете повече за безплатната помощ, обадете се на горещата телефонна линия на NHS Smokefree на 0300 123 1044 (minicom 0300 123 1014). Или посетете уеб страницата на Smokefree на [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk).

За да се регистрирате за изпитани съвети от NHS по време на бременността Ви и първите години на Вашето бебе, посетете [www.start4life.nhs.uk](http://www.start4life.nhs.uk).

**Ако обикновено не сте изложени на цигарен дим, но имате показание от 4 или повече, може би те изложени на въглероден оксид поради неизправни отопителни или готварски уреди.**


Силно Ви препоръчваме да получите експертна помощ от горещата линия за безопасност при боравене с газ **0800 111 999**.

Важно е да се провери дали отопителните и готварските Ви уреди са монтирани безопасно. Може би искате да закупите въглеродно-оксидна аларма, която ще открива ниските нива въглероден оксид в дома ВИ.

С подкрепата на



**Tommy's**



**best  
beginnings**

**Bliss**  
for babies born  
premature or sick

**Sands**  
Stillbirth & neonatal death charity



# Baadh neeftaada

Sababta baadhitaanka Kaarboon Mono ogsaydhku muhiim u yahay

Kaarboon Mono ogsaydhka (CO) waa gaad sun ah oo aanad arki karin urina karin laakiin adiga iyo ilmahaaga halis ku ah.

Gaadhida waxay ka hor joogsan kartaa in ogsajiintu ay gaadho ilmahaaga, yarayso koriinkiisa, iyo koboca, oo waxay keeni kartaa ilma ka soo dhacid, dhicis iyo dhimasho ilmaha oo degdeg ah.

Gaadhida waxaa lagu qiyaasaa baadhitaanka neef degdeg ah oo fudud oo ay bixiso ummulisadaadu muddada ballanta caadiga ah ee dhalmadda ka hor. Xoriyada dareen aad ku waydiiso ummulisadaada wax ku saabsan baadhitaanka Kaarboon Mono ogsaydhka baadhitaanku waxa uu ku siin doonaa tiro taas oo qiyasta qadarka Kaarboon Mono ogsaydhka ee qaybaha milyankiiba (PPM)



Heerkaagii dhowaa ee gaadhida 0-3 PPM waxay muujisaa gaadhid yar oo Kaarboonka Mono ogsaydhka ah 24-48 ee u dambeeyay.



Waxaad lahayd qayb gaadhidii dhowayd ee Kaarboon mono Ogsaydhka.

4+PPM waxay soo jeedisay lahayd gaadhitaankii dhowaa ee Kaarboon oo ay tana tahay walaac.

## Gaadhitaanka

Gaadhitaanka Kaarboon Mono ogsaydh caadi ahaan waa mid ka mid ah saddexda qaab;

- qiiqa sigaarka
- wax karinta khalkhalsan ama si liidata loo kariyay ama qalabka kulayliska (tan waxaa ka mid aha gaasta, dhuxusha, looxa iyo qalabka gaasta faynuusyada)
- Igsaaska baabuurka oo khalkhalsan

## Haddii adiga ama qof kale oo gurigaaga joogaa uu sigaarka cabbo, tani waa sharaxa ugu suuragalsan ee akhriska sare.

Yaraynta inuu ku gaadho sigaaruuo waa shaya ugu muhiimsan ee aad isu samayn karto adiga iyo caafimaadka ilmahaaga. Tani waxay noqon kartaa iskadayntaada cabbista sigaarka ama yaraynta inuu kaa soo gaadho kuwa kale, addoo waydiisanaya cabbayaasha sigaarka inayna ku cabbin gudaha guriga, gaadhiga ama hortaada. Marka aad joojiso, Kaarboon Mono ogsaydhku waxa uu ka baxaa qulqulka dhiigaaga iyo ka ilmahaaga, oo saamaxaa qulqul wanaagsan oo ogsajiinta ah si ay u taageerto koriinkooda iyo koboca.

Ummulisadaadu waxay ka hadli doontaa ikhtiyaarada si ay kuu caawiso, ay ka mid tahay gudbintaada adeegaaga maxaliga ah ee joojinta cabbista sigaarka. Si looga ogado wax badan oo ku saaban taageerada la heli karo, wac laynka caawimada Smokefree 0300 123 1044 (minicom 0300 123 1014). Ama booqo websaydka Smokefree [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk).

Si aad ugu biirto talada NHS ay oggolaatay xiliga uurka oo dhan yo sanadaha hore, booqo [www.start4life.nhs.uk](http://www.start4life.nhs.uk).

**Taani aanay caadi ahaan ku gaadhin qiliqa sigaarku, laakiin aad leedahay qiyaasta 4 ama wax ka badan, waxaa dhici karta inay kugu gaadhay Kaarboon Mono ogsaydhku kulayliska khalkhalsan ama qalabka wax karinta.**


Waxaan si xoogan kuugula talinaynaa inaad ka hesho caamimo Laynka Gas Safety Advice **0800 111 999**.

Waa muhiim in la hubiyo in kulayliskaaga iyo qalabkaaga wax karinta si badbaado ah loo rakibay. Wuxaad jeelaan lahayd inaad iibsato digniinta Kaarboon Mono ogsaydhka baadhi kara heerarka hoose ee Kaarboon Mono ogsaydhka gudaha gurigaaga.

SHAQADAN WAA TAAGEERAY



**Tommy's**



**best  
beginnings**

**Bliss**  
for babies born  
premature or sick

**ash.**  
action on smoking and health

# Efectuați un test respirator

De ce este important screening-ul monoxidului de carbon

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz toxic, invizibil și inodor, care este periculos pentru dumneavoastră și pentru copilul dumneavoastră.

Expunerea la monoxid de carbon poate împiedica oxigenul să ajungă la bebelușul dumneavoastră, îi poate încetini creșterea și dezvoltarea și poate avea drept consecințe avortul spontan, nașterea unui copil mort și moartea bruscă a nou-născutului.

Expunerea la monoxid de carbon poate fi măsurată cu ajutorul unui test respirator rapid și simplu, pus la dispoziție de moașa dumneavoastră în timpul unui consult de rutină anterior nașterii. Întrebați-vă moașa despre screening-ul monoxidului de carbon. În urma testului va rezulta o cifră ce măsoară cantitatea de monoxid de carbon în părți per milion (PPM).

0-3

Nivelul dumneavoastră recent de expunere la monoxid de carbon este redus.

0-3 PPM înseamnă o expunere redusă la monoxid de carbon în ultimele 24-48 de ore.

4+

Ați fost întrucâtva expusă recent la monoxid de carbon.

4+ PPM sugerează că ați fost expusă recent la monoxid de carbon și acesta este un motiv de îngrijorare.

## Expunere

De obicei, expunerea la monoxidul de carbon are una dintre cele trei cauze de mai jos:

- fumul de țigară
- aparate de gătit sau de încălzire defecte sau ventilate necorespunzător (inclusiv aparate pe gaz, cărbune, lemn și parafină)
- sisteme de eșapament defecte

**Dacă fumați sau cineva din locuința dumneavoastră fumează, aceasta este cauza cea mai probabilă a rezultatului îngrijorător obținut la test.**

Diminuarea expunerii la fumul de țigară este lucrul cel mai important pe care îl puteți face pentru sănătatea dumneavoastră și a bebelușului dumneavoastră. Puteti face acest lucru renunțând la fumat sau diminuându-vă expunerea la alți fumători, rugând fumătorii să nu fumeze în casă, în mașină sau în fața dumneavoastră. De îndată ce vă opriți, monoxidul de carbon dispare din fluxul sanguin, atât al dumneavoastră cât și al bebelușului dumneavoastră, permitând fluxului optim de oxigen să îi susțină creșterea și dezvoltarea.

Puteti discuta opțiunile de asistență cu moașa dumneavoastră, ce vă poate recomanda serviciul local dedicat persoanelor ce doresc să renunțe la fumat. Pentru a afla mai multe despre asistență gratuită disponibilă, sunați la numărul de asistență NHS Smokefree 0300 123 1044 (minicom 0300 123 1014). Sau vizitați site-ul web Smokefree la adresa [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk).

Pentru a vă înregistra și a primi consiliere aprobată NHS în timpul sarcinii și primilor ani de viață ai copilului, vizitați [www.start4life.nhs.uk](http://www.start4life.nhs.uk).

**Dacă nu sunteți în mod obișnuit expusă la fum de țigară dar ati înregistrat un rezultat de 4 sau peste, este posibil să fi fost expusă la monoxid de carbon din cauza aparatelor de încălzire și gătit defecte.**

Vă recomandăm să obțineți ajutor specializat de la Gas Safety Advice Line (Linia Telefonică de Consiliere pentru Siguranța Instalațiilor pe Gaz) apelând **0800 111 999**.

Este important să verificați ca aparatelor de încălzire și gătit să fie instalate corespunzător. Poate că veți dori să cumpărați un detector de monoxid de carbon ce va detecta nivelurile scăzute de monoxid de carbon din locuința dumneavoastră.

*smoking in pregnancy  
challenge group* ●

# Pasitirkite iškvepiamą orą

## Kodėl svarbu pasitikrinti anglies monokso kiekį

Anglies monoksidas (CO) yra nuodingos bespalvės ir bekvapės dujos, kurios yra labai pavojingos jums ir jūsų kūdikiui.

Dėl CO poveikio jūsų vaisius gali gauti nepakankamą kiekį deguonies, dėl to gali sulėtėti jo augimas ir raida, o besilaukianti moteris gali persileisti, pagimdyti negyvą kūdikį arba gimusį kūdikį gali ištikti staigiai mirtis.

CO poveikij galima išmatuoti greitu ir nesudėtingu kvėpavimo testu, kurį padės atlkti jūsų slaugė eilinio ikigimdyvinio vizito metu. Paklauskite savo slaugės apie šį anglies monokso tyrimą. Testo metu bus gautas skaičius, kuris parodys milijoninių anglies monokso dalių (PPM) kiekį.



Pastaruoju metu  
patyrėte nedidelį  
anglies monokso poveikį.

0–3 PPM rodo nedidelį  
anglies monokso poveikį  
per paskutines 24–48 val.



Pastaruoju metu  
patyrėte vidutinį  
anglies monokso poveikį.

4+ PPM rodo, kad pastaruoju  
metu patyrėte vidutinį  
anglies monokso poveikį,  
kuris verčia susirūpinti.

### Poveikis

Paprastai anglies monokso poveikij sukelia kuris nors iš šių trijų veiksnių:

- tabako dūmai
- netinkamai veikiantys ar nevėdinami maisto ruošimo ar šildymo prietaisai (pvz., dujomis, anglimis, malkomis ar parafinu kūrenamos virykliės)
- netinkamai veikianti automobilių dujų išmetimo sistema

Jei namuose rūkote jūs ar kiti asmenys, tai gali būti akivaizdžiausias didelio anglies monokso kiekio veiksnys.

Todėl norėdama pagerinti savo ir vaisiaus sveikatą, turėtumėte sumažinti tabako dūmų poveikį. Geriausia būtų mesti rūkyti ir vengti būti kitų rūkančių asmenų draugijoje – paprašykite kitų žmonių nerūkyti namie, automobilije ar bendraujant su jumis. Metus rūkyti anglies monoksidas pasišalins iš jūsų ir vaisiaus kraujo sistemos, todėl vaisius gaus reikiama kiekj deguonies, būtino sveikam jo augimui ir vystymuisi.

Apie galimybes mesti rūkyti pasitarkite su savo slauge – ji gali nukreipti jus vietas gydytojui, padėsiančiam tai padaryti. Daugiau sužinoti apie jums siūlomas nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas galite paskambinusi „NHS Smokefree“ pagalbos linija nr. 0300 123 1044 („minicom“ nr. – 0300 123 1014). Arba apsilankykite „Smokefree“ (pagalbos metant rūkyti) svetainėje [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk).

Jei norite gauti NHS patvirtintų konsultacijų néštumo metu bei pirmaisiais vaiko auginimo metais, apsilankykite svetainėje [www.start4life.nhs.uk](http://www.start4life.nhs.uk).

**Jei paprastai nepatiriate tabako dūmų poveikio, tačiau jūsų anglies monokso rodiklis yra 4 ar daugiau, gali būti, kad anglies monokso poveikį patiriate dėl netinkamai veikiančios šildymo ar maisto ruošimo įrangos.**


Tokiu atveju primygintai rekomenduojame kreiptis profesionalios pagalbos paskambinus „Gas Safety Advice Line“ (Saugaus dujų naudojimo linija) nr. **0800 111 999**.

Labai svarbu patikrinti, ar jūsų šildymo ar maisto ruošimo įranga yra tvarkinga. Taip pat būtų pravartu įsigyti anglies monokso detektorių, kuris signalizuoja apie net ir nedidelį anglies monokso kiekj jūsų namuose.

**ŠIA INICIATYVĄ REMIA**



**Tommy's**



**best  
beginnings**

**Bliss**  
for babies born  
premature or sick

**Sands**  
Stillbirth & neonatal death charity

**ash.**  
action on smoking and health

# لیک چن اج یک سفن ت میں پا

مہا روی ک گن نی رکس ا ڈی اس کاؤن ووم نبراک  
نی من هگنوں ای هکی د پا سے سچ ہے سی گیلریز کی (CO) ڈی اس کاؤن ووم نبراک  
۔ ہے کان رطخے ہیلے کے جب کے پا روا پا میں کھلیں ہی تکس  
، ہے اتکس وہ للخ نیم کن لم نجیس کا وکے جب کے پا سے سمنوہ انماں اک سا  
مدرم، لمح طاقس ات جیتن روا، ہے اتکس رک مک وک امن وشن روا شئ ازفا یک سا  
۔ ہے یتکس وہ توم کن اجا یک دولو ہون روا تدالو یکے جب  
یک پا نارود ے ک تاق الہ شیادی پ زال بق قباطم ے ک لومع شیامی پ یک رثا  
وہ معیرذ ے ک جن اج یک سفن نت ناس اروا یدروف مدرک مهارف معیزد ے ک فی او ڈم  
۔ ہے نکے س فی او ڈم نین پا قل عتم ے ک جن اج یک ڈی اس کا ونوم نبراک۔ ہے یتکس  
نبراک وج اگ ے رک مهارف ربم کیا وک پا جن اج یورک نیمن سوس حم کھجھ ج نیم  
۔ ہے اترک شیامی پ نیم (PPM) نوصن نیلم یف وک راقد یک ڈی اس کا ونوم

رئیم روٹن هگ 24-48 ہتھ زگ  
رٹا ے کلہے یک ڈی اس کا ہنوم نبراک  
۔۔۔ 0-3 PPM اترک رہاظ وک

نبراک وک پا مک یه اترک رهاظ  
اک ڈی اس کاونوم نبراک رپ پا  
روا اهت اوه رثا میلاح اک ڈی اس کاونوم .اهت اوه رثا میلاح هچک  
-یه تاب یک PPM+4 مشدخت می

• یشون ٹرگس اک ڈی اس کاؤنٹر نبراءک رپ روٹ ماع 199/ جردنم لیڈ جردنم سے روقیر طنیت لیں ہے۔

- ۰ یک راداوه ش خب یل سرت ریخ ای صرقان یک یعنی رک مهارف یمرگ ای یعنی اکپ ان اهک (ری) لماش تال آنی فاری پ روا یڑکل ، ملیوک ، سی گ نیم سا ) تال آ
- ۱. ماظن یک ی راداوه صرقان یک راک

گنڈی ر مداری ز ووت ، سے هی ترک / اترک ی شون ٹھی رگس یئو کان یم رہ گے ک پا رگا  
مے ه تاحاض و من کشم مداری ز سس بس هی سے یل سے

پا وج سے تاب مہا سس انرک مک وک سے نرک انم اس اک نیو ہد سے ک ٹھی رگس اک پا  
ی شون ٹھی رگس دوخ ہی نیہ ی تکس رک سے یل سے ک تھص یک سے چب سے نپا روا سے نپا  
سے شون ٹھی رگس ، سے نرک یمک نیم سے آ سے نام اس سے ک رور سود وک دوخ ای ، سے نرک کرت  
وہ عورت سے ک سے نہ ک سے یل سے ک سے نیپا پیہن ٹھی رگس سے نام اس سے ک پا ای راک ، رہگ  
چب سے ک پا روا سے ک پا ڈی اس کا ونوم نبراک ، نیہ ی تاج کر پا برج راب کیا - سے ه اتکس  
یل سے ک ددم نیم امنو شن روا شی ازفا سے ک نا روا ، سے ه اتاج وہ فاصل سے نوخ نارود سے ک  
سے ه اتکس سے نوہ یں اور ی هجا یک نجیس کا

سچ ، سے ه ی تکس رک لای خ میل دایت رپ تاب اختن افی اوٹم یک پا سے یل سے ک ددم یک پا  
تفم با یتسد - سے ه لامش ان جی ہب ساپ سے ک تمدخ ی شون ٹھی رگس کرت ی اقم وک پا نیم  
0300 نیال پلیه NHS Smokefree سے ک NHS ای نیرک لاک رپ ( 0300 123 1014 ) موک یں نیم ) ،  
ٹھی اس بیو Smokefree www.smokefree.nhs.uk

ح الص مدروظنم معورہ رک NHS نارود سے ک نول اس سے ک عورش روا نارود سے ک لمح  
www.start4life.nhs.uk < سے ه اتاج رپ /323 >

4 گنڈی ر یک پا نکیوں ہیہ ی ترک نیم انم اس اک نیو ہد سے ک ٹھی رگس رپ رو ط ماع پا رگا  
نبراک معورہ سے ک تالا صدق ان سے ک سے نہ اہک ای سے نرک ہمارف ی مرگ بآ ووت ، سے ه مداری ز ای  
نیہ ہ ی تکس وہ نیم رثا سے ک ڈی اس کاون نوم


0800 111 999 0800 نثال سناؤ ٹیا یقیس سیگ پا بک نیہ سے نرک شرافس رپ رو ط روز رپ تہب مہ نیرک لصاح ددم  
یک ریام سے

لاتسا سے سے قیرط طوفم وک تالا سے ک سے ناکپ اناہک روا بترا حبک سے ه مہا انرک چناج یک سا نیم رہ گے ک  
پا وج نیہ بتکس باج اندر رخ مرا لا ٹناسکاونوم نبراک کیا پا - سے ه ایگ ایک  
اک ساکل بپ اک حطعن مک یک ٹناسکاونوم نبراک

معورنپ سے ه مخف ٹی امح مک ہی



Tommy's



Sands  
Stillbirth & neonatal death charity

CPHVA

best  
beginnings

Bliss  
for babies born  
premature or sick

ash.  
action on smoking and health

# Nefesinizi test edin

## Neden Karbon Monoksit taraması önemli?

Karbon Monoksit (CO), göremediğiniz veya koklayamadığınız, ancak sizin ve bebeğiniz için tehlikeli olan zehirli bir gazdır.

Maruz kalma, bebeğinize yeterli oksijenin ulaşmasını önleyebilir, büyümeyi ve gelişimini yavaşlatabilir ve düşük, ölü doğum ve anı bebek ölümüyle sonuçlanabilir.

Maruz kalma seviyesi, rutin doğum öncesi kontrollerinde doğum uzmanı tarafından yürütülen hızlı ve basit bir nefes testi ile ölçülebilir. Doğum uzmanınızdan Karbon Monoksit taraması yapmasını istemekten çekinmeden. Test, milyonda bir parça (PPM) birimiyle Karbon Monoksit miktarını ölçen bir sayı verecektir.



Son Karbon Monoksite  
maruz kalma  
seviyeniz düşük.

0-3 PPM, son 24-48 saat içinde  
düşük Karbon Monoksit'e  
maruz kalmayı göstermektedir.



Son zamanlarda  
Karbon Monoksit'e  
maruz kaldınız.

4+ PPM, son zamanlarda Karbon  
Monoksite maruz kaldığınızı ve bunun  
endişe verici olduğunu gösterir.

### Maruz kalma

Karbon Monoksit'e maruz kalma genellikle aşağıdaki üç durumdan biriyle gerçekleşir;

- sigara içmek
- arızalı veya kötü havalandırmalı pişirme veya ısıtma cihazları (gaz, kömür, odun ve parafin cihazları dahildir)
- arızalı araba egzozları

**Siz veya evinizdeki herhangi birisi sigara içiyorsa, seviyenin yüksek okunmasındaki en muhtemel sebep budur.**

Sigara dumanı maruziyetini azaltmak, sizin ve bebeğinizin sağlığı için yapabileceğiniz en önemli tedbirdir. Bu, sigarayı bırakarak veya diğer insanlardan kaynaklı maruziyetinizi azaltarak, başkalarının evde, arabada veya sizin yanınızda sigara içmemesini isteyerek yapılabilir. Sigarayı bıraktığınızda, Karbon Monoksit sizin ve bebeğinizin kan dolaşımından temizlenir, bebeğinizin büyümесini ve gelişimini desteklemek için yeterli miktarda oksijen akışını sağlar. Yerel sigara bırakma hizmetinize sevginiz dahil olmak üzere, size yardımcı olacak seçenekleri doğum uzmanınız ile görüşebilirsiniz. Ücretsiz destek hakkında daha fazla bilgi edinmek için NHS Smokefree yardım hattını 0300 123 1044 numaralı telefondan (*minicom* 0300 123 1014) arayabilirsiniz. Ya da Smokefree internet sitesini [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk) ziyaret edin. Hamilelik ve ilk yıllarda NHS onaylı tavsiye almak için [www.start4life.nhs.uk](http://www.start4life.nhs.uk) adresini ziyaret edin.

**Genellikle sigara dumanına maruz kalmadığınız halde Karbon Monoksit seviyenizin 4 veya üzerinde bir değerde olduğu görülmüyorsa bu maruziyet arızalı ısıtma veya pişirme cihazlarından kaynaklanıyor olabilir.**


0800 111 999 numaralı telefondan Gaz Güvenliği Danışma Hattından uzman yardımımı almanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Isıtma ve pişirme cihazlarınızın güvenli bir şekilde kurulup kurulmadığını kontrol etmek önemlidir. Evinizdeki düşük Karbon Monoksit seviyelerini algılayacak bir Karbon Monoksit alarmı satın almak isteyebilirsiniz.

**BU ÇALIŞMAYI DESTEKLEYEN**



**Tommy's**



**best  
beginnings**

**Bliss**  
for babies born  
premature or sick

**Sands**  
Stillbirth & neonatal death charity

**ash.**  
action on smoking and health

# ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂਚ ਕਾਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਇੱਕ ਜਹਗਿਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਸਿਨ੍ਹੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁੰਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਉਘਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਕਿਾਸ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਸਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭਪਾਤ, ਮੁਰਤਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਕਨਿ ਉਘਾੜ ਵਾਚਿ ਆਏ ਹੋ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਚਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਚਿ ਸੰਕੇਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਮਲਿੰਗੀ ਜੋ ਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸ ਲੱਖ (PPM) ਵਾਚਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਦੀ ਹੈ।

0-3

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਘਾੜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੀਆ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ।

0-3 PPM ਪਛਿਲੇ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਚਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਘਾੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4+

ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਾਚਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਘਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

4+ PPM ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਾਚਿ ਉਘਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਤੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

## ਉਘਾੜ

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਉਘਾੜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿ ਤਨਿ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਚਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

- ਸਿਗਿਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ
- ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰ ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ (ਇਸ ਵਾਚਿ ਗੈਸ, ਕੋਲਾ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੈਰਾਫਿਨ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)
- ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਕਿਆਸਿਆਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਸਗਿਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧ ਰੀਡਗਿ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਗਿਰਟ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉਘਾੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਜਹਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਿਤ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਹਿ ਖਾਦ ਸਗਿਰਟ ਪੀਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਘਾੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਦੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਕਾਰ ਵੱਚਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਗਿਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਿਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਿਲਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਸਿ ਵੱਚਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਗਿਰਟ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵੱਚਿ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 0300 123 1044 (minicom 0300 123 1014) ਤੇ NHS Smokefree ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਂ Smokefree ਵੈਬਸਾਈਟ [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk) ਤੇ ਜਾਓ।

ਪ੍ਰਤੇ ਗਰੂਬਕਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ NHS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਾਓ।> </32

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਗਿਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਉਘਾੜ ਵੱਚਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਗਿ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਉਘਾੜ ਵੱਚਿ ਅਏ ਹੋ।


ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ (Gas Safety Advice Line) 0800 111 999 ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਚਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲਿਮ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਤਾਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਮਦਦ ਪਕੂਦਾਨ ਵੀਂਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ



Tommy's



best  
beginnings

Bliss  
for babies born  
premature or sick

Sands  
Stillbirth & neonatal death charity

ash.  
action on smoking and health

# Teste a sua respiração

Por que motivo a análise de monóxido de carbono importa

O monóxido de carbono (CO) é um gás venenoso que não é possível ver ou cheirar, mas é perigoso para si e para o seu bebé.

A exposição pode impedir que o oxigénio chegue ao seu bebé, atrasar o crescimento e o desenvolvimento e pode resultar em aborto, nado-morto e em morte súbita infantil.

A exposição pode ser medida através de um teste simples e rápido de respiração disponibilizado pela parteira durante a consulta pré-natal de rotina. Não hesite em falar com a sua parteira sobre a análise de monóxido de carbono. O teste fornece um número que mede a quantidade de monóxido de carbono em partes por milhão (PPM).



O seu nível recente de exposição ao monóxido de carbono é baixo.

0-3 PPM mostra baixa exposição a monóxido de carbono nas últimas 24-48 horas.



Houve alguma exposição recente ao monóxido de carbono.

4+ PPM sugere que houve exposição recente ao monóxido de carbono e este valor é preocupante.

## Exposição

A exposição ao monóxido de carbono acontece normalmente devido a uma de três causas:

- fumo de cigarros
- fraca ventilação ou ventilação com defeito na cozinha ou aparelhos de aquecimento (isto inclui aparelhos a gás, carvão, lenha e parafina)
- carros com problemas no escape

**Se fuma ou se alguém fuma em sua casa, esta será a explicação mais provável para o resultado elevado.**

Reducir a sua exposição ao fumo do cigarro é a coisa mais importante que pode fazer pela sua saúde e a do seu bebé. Poderá fazê-lo deixando de fumar ou reduzindo a sua exposição pedindo a outros fumadores que não fumem em casa, no carro ou perto de si. Quando parar, o monóxido de carbono é eliminado da sua corrente sanguínea e da do seu bebé, permitindo obter um bom fluxo de oxigénio que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do seu bebé.

A sua parteira poderá falar-lhe sobre as opções disponíveis para a ajudar, incluindo encaminhá-la para o serviço local anti-tabágico. Para obter mais informações sobre o apoio gratuito disponível, contacte a NHS Smokefree helpline (linha de ajuda anti-tabágica do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) através do número **0300 123 1044** (*minicom 0300 123 1014*). Ou visite o website Smokefree em [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk).

Para se registar para obter aconselhamento aprovado pelo NHS ao longo da gravidez e nos primeiros anos, visite [www.start4life.nhs.uk](http://www.start4life.nhs.uk).

**Se habitualmente não é exposta ao fumo do cigarro, mas se tiver um resultado igual ou superior a 4, pode ter sido exposta ao monóxido de carbono devido a aparelhos de aquecimento ou de cozinha avariados.**


Recomendamos vivamente que procure ajuda junto de um técnico especializado através da Gas Safety Advice Line (linha de ajuda para segurança de gás) **0800 111 999**.

É importante verificar se os seus aparelhos de aquecimento e de cozinha estão instalados em segurança. Poderá adquirir um alarme de monóxido de carbono, que detecta baixos níveis de monóxido de carbono em sua casa.

ESTE TRABALHO TEM O APOIO DE



**Tommy's**



**best  
beginnings**

**Bliss**  
for babies born  
premature or sick

**Sands**  
Stillbirth & neonatal death charity

**ash.**  
action on smoking and health

# Przetestuj swój oddech

## Dlaczego badanie poziomu tlenku węgla jest ważne?

Tlenek węgla (CO) (potocznie czad) to trujący gaz, który jest niewidoczny, nie ma smaku i zapachu, ale który jest niebezpieczny dla Ciebie i Twojego dziecka.

Wdychanie tlenku węgla powoduje niedotlenienie Twojego dziecka, spowalnia jego wzrost i rozwój, oraz może doprowadzić do poronienia, urodzenia martwego dziecka lub nagłej śmierci noworodka.

Poziom narażenia na działanie tlenku węgla może być zmierzony za pomocą szybkiego i prostego testu oddechowego dostarczonego przez Twoją położną podczas rutynowej wizyty w czasie ciąży. Nie krępuj się zapytać swoją położną o badanie na poziom tlenku węgla. Wynik testu to liczba, która określa ilość tlenku węgla w częściach na milion (PPM).

0-3

**Twój ostatni poziom  
narażenia na działanie  
tlenku węgla jest niski.**

0-3 PPM oznacza niski poziom  
narażenia na tlenek węgla w  
ostatnich 24-48 godzin.

4+

**4+ Byłaś niedawno  
narażona na wdychanie  
tlenku węgla**

4+ sugeruje, że byłaś niedawno  
narażona na działanie tlenku  
węgla i jest to niepokojące.

## Ekspozycja

Najczęstsze przyczyny narażenia na działanie tlenku węgla to:

- Dym papierosowy
- Uszkodzone lub słabo wentylowane urządzenia do gotowania lub ogrzewania (dotyczy to urządzeń gazowych, węglowych, na drewno lub parafinę)
- Uszkodzone rury wydechowe pojazdów

**Jeśli Ty lub ktoś inny w Twoim domu pali papierosy, to jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna wysokiego wyniku testu.**

---

Ograniczenie ekspozycji na dym papierosowy jest najważniejszą rzeczą którą możesz zrobić dla siebie i zdrowia Twojego dziecka. Możesz to osiągnąć poprzez rzucenie palenia, zmniejszenie narażenia na dym innych osób, prosząc palaczy aby nie palili w domu, w samochodzie lub w twoim otoczeniu.

Kiedy uda Ci się wyeliminować tlenek węgla z Twojego otoczenia, zanika on z krwiobiegu, pozwalając na swobodny przepływ tlenu, co wspiera prawidłowy wzrost i rozwój dziecka.

Twoja położna może przedstawić Ci możliwości pomocy, włącznie ze skierowaniem do najbliższej placówki pomagającej w rzuceniu palenia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnego bezpłatnego wsparcia, zadzwoń na infolinię NHS Smokefree pod numer 0300 123 1044 (minicom 0300 123 1014) lub odwiedź stronę internetową [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk)

Aby otrzymać zatwierdzone przez NHS porady w trakcie całego okresu ciąży i pierwszych lat życia dziecka zapisz się na stronie [www.start4life.nhs.uk](http://www.start4life.nhs.uk).

**Jeśli nie jesteś zwykle narażona na dym papierosowy, ale wynik Twojego testu wynosi 4 lub więcej, może to oznaczać, że jesteś narażona na tlenek węgla z wadliwie działających urządzeń grzewczych lub kuchennych.**

---

Zdecydowanie zalecamy skorzystanie z fachowej pomocy w dostępnej infolinii (Gas Safety Advice Line) pod numerem 0800 111 999.

Jest to bardzo ważne, by upewnić się, że Twoje urządzenia grzewcze i kuchenne są bezpiecznie zainstalowane.

Dobrym rozwiązaniem jest zakup czujnika z alarmem, który wykryje nawet niski poziom tlenku węgla w Twoim domu.

*smoking in pregnancy  
challenge group* ●



# ΤΕΣΤ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

## Γιατί είναι σημαντική η εξέταση για μονοξείδιο του άνθρακα

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα δηλητηριώδες, τοξικό αέριο που είναι αχρωμο και άσμο, αλλά που είναι επικίνδυνο για εσάς και το μωρό σας.

Η έκθεση σε αυτό το αέριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να εμποδίσει το μωρό σας να λάβει οξυγόνο, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ανάπτυξη του εμβρύου. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αποβολή, θνησιγένεια, ή αιφνίδιο θάνατο του βρέφους.

Η έκθεση στο μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να μετρηθεί με μιά γρήγορη και απλή εξέταση αναπνοής που θα σας κάνει η μαία σας σε ραντεβού προγεννητικού ελέγχου. Μη διστάσετε να ζητήσετε από τη μαία σας να ελέγξει την έκθεσή σας στο μονοξείδιο του άνθρακα. Η εξέταση θα σας δώσει έναν αριθμό που μετράει την ποσότητα μονοξειδίου του άνθρακα σε μέρη ανά εκατομμύριο (PPM).



Το επίπεδο της πρόσφατης έκθεσης σας σε μονοξείδιο του άνθρακα είναι χαμηλό

0-3 PPM δείχνει μικρή έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα τις τελευταίες 24-48 ώρες



Είχατε πρόσφατα εκτεθεί σε μονοξείδιο του άνθρακα

4+ PPM δείχνει ότι είχατε πρόσφατη έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα κι αυτό είναι ανησυχητικό.

### Έκθεση στο μονοξείδιο του άνθρακα

Η έκθεση στο μονοξείδιο του άνθρακα προκύπτει συνήθως για έναν από τους παρακάτω λόγους:

- Κατνός τοιγάρου
- Ελαττωματικές ή ανεπαρκώς αεριζόμενες συσκευές για μαγείρεμα ή θέρμανση (αυτό περιλαμβάνει τις συσκευές που λειτουργούν με φυσικό αέριο, κάρβουνο, ξύλο ή παραφίνη)
- Ελαττωματική εξάτμιση αυτοκινήτου



Εάν καπνίζετε εσείς ή κάποιος στο σπίτι σας, αυτή είναι η πιο πιθανή εξήγηση για την υψηλή ένδειξη στην εξέταση μονοξειδίου του άνθρακα.

Το πιό σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για την υγεία τη δική σας και του μωρού σας είναι να μειώσετε την έκθεσή σας στον καπνό του τσιγάρου. Αυτό μπορεί να γίνει σταματώντας το κάπνισμα, ή μειώνοντας την έκθεσή σας στον καπνό των άλλων, ζητώντας από τους καπνιστές να μην καπνίζουν μέσα στο σπίτι σας ή μπροστά σας. Μόλις σταματήσετε, το μονοξειδίο του άνθρακα καθαρίζεται από το αίμα το δικό σας και του μωρού σας, επιτρέποντας μια καλή παροχή οξυγόνου στο έμβρυο που είναι απαραίτητη για την σωστή ανάπτυξή του.

Μπορείτε να το συζητήσετε με τη μαία σας για να σας βοηθήσει, όπως να σας παραπέμψει σε μια δωρεάν τοπική υπηρεσία για τη διακοπή του καπνίσματος. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δωρεάν υποστήριξη από το NHS, καλέστε τη γραμμή βοήθειας του **NHS Smokefree** στο **0300 123 1044 (minicom 0300 123 1014)**. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **Smokefree** στο [www.smokefree.nhs.uk](http://www.smokefree.nhs.uk)

Για να πάρετε έγκυρες συμβουλές από το NHS κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στα πρώτα χρόνια του παιδιού σας, επισκεφτείτε το [www.start4life.nhs.uk](http://www.start4life.nhs.uk)

**Εαν δεν εκτίθεστε συνήθως σε καπνό τσιγάρου, αλλά έχετε μέτρηση 4 ή περισσότερο στην εξέταση μονοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να έχετε εκτεθεί σε μονοξειδίο του άνθρακα από μια ελαττωματική συσκευή μαγειρέματος ή θέρμανσης.**

Σας συνιστούμε να ζητήσετε έγκυρη βοήθεια από την Γραμμή Βοήθειας για την Ασφάλεια του Αερίου (**Gas Safety Advice Line**) στο **0800 111 999**.

Είναι σημαντικό να ελέγχετε ότι οι συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος που χρησιμοποιείτε έχουν σωστή εγκατάσταση. Μπορεί να θέλετε να αγοράσετε έναν οικιακό ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα, που ανιχνεύει χαμηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στο σπίτι σας.

Greek

THIS WORK IS SUPPORTED BY

